

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو (منہ در منہ) طعنے دینے اور (پیڑ پیچھے) برائیاں کرنے کا خوگر ہے۔

هُمَزَةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ①

خرابی ہے ہر طعنے دیتے عیب چختے کی۔

الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ②

جس نے سمیٹا مال اور گن گن رکھا،

تَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ③

خیال رکھتا ہے کہ اس کا مال سدا رہے گا اسکے ساتھ۔

كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ④

کوئی نہیں! اسکو پھینکنا ہے اس روندنے والی (حطمہ) میں۔

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ⑤

اور تو کیا بوجھا؟ کون ہے روندنے والی (حطمہ)؟

نَارُ اللَّهِ الْمُوَقَّدَةُ ⑥

آگ ہے اللہ کی سلگائی۔

الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ﴿٧﴾

وہ جو جھانک لیتی ہے دل۔

إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ ﴿٨﴾

انکو اس میں موندنا (ڈھانک دیا) ہے،

فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ﴿٩﴾

لبے لبے ستونوں میں۔



© Copy Rights:
Zahid Javed Rana, Abid Javed Rana
Lahore, Pakistan
www.quran4u.com